

## سبق - 11، سورة الفلق

1- عربی بول چال: ان کلمات کو کیسے جب کسی کو خوش آمدید کہنا ہو:

وَسَهْلًا	أَهْلًا	وَمَرْحَبًا	أَهْلًا وَسَهْلًا
اور آسان (محسوس کیجئے)	ٹانڈان (کے فرد بیجا محسوس کیجئے)	خوش آمدید	خوش آمدید

2- گرامر: (۱) حرف جر (عَلَى) قرآن میں علیحدہ اور نیچے دیے گئے سات ضمائر کے ساتھ 1423 بار آیا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے۔ یہ یاد رہے کہ جب یہ حرف جر، فعل، اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ آئے تو اسکے معنی بدل سکتے ہیں۔ (۲) اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کی TPI پریکٹس کیجئے۔ فاعل کہتے وقت سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماریے۔ مارتے وقت نظر سیدھے ہاتھ پر رہے اور زبان پر **فَاعِل**۔ مارتے کے بعد فوری بائیں ہاتھ کی طرف نظر جائے اور زبان سے **مَفْعُول** نکلے۔ مصدر (کام کا نام) یعنی **فَعْل** کے اشارہ کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ مفعول کے اشارے کے فوری بعد اسی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اوپر اشارہ کریں، گویا آپ کسی کام کو یاد دلا رہے ہوں۔

فَاعِل کرنے والا	Active participle (ap.)
مَفْعُول وہ جس پر اثر پڑا	Passive participle (pp.)
فَعْل کرنا، کام کا نام	Verbal noun (vn.)
فَاعِلُونَ، فَاعِلِينَ pl. کرنے والے	
مَفْعُولُونَ، مَفْعُولِينَ pl. وہ جن پر اثر پڑا	

عَلَى + ... پر	
عَلَيْهِ	اس پر
عَلَيْهِمْ	ان سب پر
عَلَيْكَ	آپ پر
عَلَيْكُمْ	آپ سب پر
عَلَيَّ	مجھ پر
عَلَيْنَا	ہم پر

نوٹ کے لئے: عَلَيْهَا اس پر

### 3۔ قرآن و حدیث سے: 3SP کے انداز میں پڑھیے۔

سورة الفلق : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ				
قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ (1)	مِن شَرِّ
کہہ دیجئے	میں پناہ میں آتا ہوں	رب کی	صبح کے،	شر سے
مَا	خَلَقَ (2)	وَمِن شَرِّ	غَاسِقٍ	إِذَا
(اس کے) جو	اس نے پیدا کیا	اور شر سے	اندھیرے کے	جب
وَقَبَّ (3)	وَمِن شَرِّ	النَّفَّاثَاتِ	فِي الْعُقَدِ (4)	
چھا جائے،	اور شر سے	چھوٹکیں مارنے والیوں کے	گرہوں میں	
وَمِن شَرِّ	حَاسِدٍ	إِذَا حَسَدَ (5)		
اور شر سے	حمد کرنے والے کے	جب وہ حمد کرے۔		

کہہ دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں چھوٹکیں مارنے والیوں کے شر سے، اور شر سے حمد کرنے والے کے جب وہ حمد کرے۔

ہوم ورک: سات آسان ہوم ورکس کو یاد رکھیے، ورک شیٹ کو پڑھیے، پیغام پر غور کرنے اور عمل کرنے کی مسلسل کوشش کیجئے۔

## سبق -11 ، سورة الفلق

1. عربی بول چال: ترجمہ کیجیے۔

سَهْلًا	أَهْلًا	سَهْل	أَهْل	وَمَرْحَبًا	أَهْلًا وَسَهْلًا

2. گرامر : عربی الفاظ لکھیے۔

کرنے والا	Active participle (ap.)
وہ جس پر اثر پڑا	Passive participle (pp.)
کرنا، کام کا نام	Verbal noun (vn.)
	pl. کرنے والے
	pl. وہ جن پر اثر پڑا

عَلَىٰ + ... پ
ان پر
ان سب پر
آپ پر
آپ سب پر
مجھ پر
ہم پر

3. قرآن وحدیث سے : ترجمہ کیجیے۔

سورة الفلق : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *****					
قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ (1)	مِن	شَرِّ
مَا	خَلَقَ (2)	وَمِن	شَرِّ	غَاسِقِ	إِذَا
وَقَبَّ (3)	وَمِن شَرِّ	التَّفَاطَاتِ	فِي الْعُقَدِ (4)		
وَمِن شَرِّ	حَاسِدِ	إِذَا	حَسَدَ (5)		

سبق نمبر - 11: آج جو سبق آپ نے سیکھا ہے اس میں سے ان الفاظ کو لکھیے یا نشان دہی کیجیے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہوں یا پچھلے اسباق میں آپ نے سیکھا ہو یا جن کے مادہ کے الفاظ اردو یا مانوس عربی الفاظ میں بھی وہی ہوں۔

Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic	Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic
إذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے وَقَبَّ: چھا گیا إِذَا وَقَبَّ: جب چھا جائے	و ق ب	جب چھا جائے	إِذَا وَقَبَّ	أهل بیت	أ ه ل	خاندان	أَهْلٌ
sg. نَفَاثَةٌ; پھونکنے کی آواز	ن ف ث	پھونک مارنے والیاں	نَفَاثَاتٌ	سہولت	س ه ل	آسان	سَهْلٌ
عقد: شادی میں (رشتوں کی گانٹھ)	ع ق د	گریں، گانٹھیں	عُقَدٌ		ف ل ق	صبح	فَلَقٌ
حَسَدٌ: اس نے حسد کیا	ح س د	حسد کرنے والا	حَاسِدٌ	خَالِقٌ: پیدا کرنے والا	خ ل ق	پیدا کیا	خَلَقَ
إذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے	ح س د	جب وہ حسد کرے	إِذَا حَسَدَ		غ س ق	اندھیرا	غَاسِقٌ

